

wɔ ɔgba-idɛra eyiti awɔn odo nʃan nisalɛ rɛ, nwɔn o si ʃe gberɛ sinu rɛ lailai. Dajudaju Qlɔhun ti pese ti o dara julɔ fun u.

12. Qlɔhun ni ɛniti O da sanma meje ati iru wɔn ni ilɛ. O si nsɔ aʃɛ kalɛ larin wɔn ki ɛnyin le mɔ pe dajudaju Qlɔhun ni Alagbara lori gbogbo nkan, atipe dajudaju Qlɔhun fi mimɔ Rɛ rɔkirika gbogbo nkan.

(66) *Suratul - Tahrimi*

Ni orukɔ Qlɔhun Ajɔkɛ aiyɛ, Aʃakɛ ɔrun.

1. Irɛ Annabi, kiniʃɛ ti o sɔ nkan ti Qlɔhun ʃɛ lɛtɔ fun ɔ di ɛwɔ (fun ra rɛ)? Irɛ fi nwa idunnu awɔn iyawo rɛ? Qlɔhun jɛ Oludarijini, Onikɛ.

2. Dajudaju Qlɔhun ti ʃɛ ofin fun nyin bi ɛ ti mǎ moribɔ ninu ibura nyin; Qlɔhun si ni Oluranlɔwɔ nyin, On si ni Onimimɔ, Olɔgbɔn.

3. Atipe nigbati Annabi ba ɔkan ninu awɔn iyawo rɛ sɔ ɔrɔ ni ipamɔ, nigbati oniyɛn sɔ ɔ (fun ɛlomiran), Qlɔhun si fi on han a (Annabi). On (Annabi) fi apakan mɔ ɔ, o si fi apakan pamɔ Nitorina nigbati on sɔ ɔ fu u; (iyawo rɛ) o sɔpɛ: Tani o sɔ eyi fun ɔ?. O sɔpɛ:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ وَمِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٦٦﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمُبْحَمٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْلِغِي مَرَضَاتٍ أَنْزَلْنَاكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾

قَدْ فَضَّ اللَّهُ لَكُمْ نُحْلَةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاحِهِمْ حَلِيمًا فَلَمَّا بَيَّنَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا بَيَّنَّاهَا بِهِ، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٦٦﴾

(Qlōhun): Oni-mimq̄, Alamq̄otan ni O s̄o fun mi.

4. Ti ɛnyin (iyawo r̄e mej̄ji) ba ronupiwada l̄o ba Qlōhun, q̄k̄an ɛnyin mej̄ji p̄p̄a t̄e si sīse eyi; ti ɛ ba si ran ara nyin l̄ow̄o si (Annabi), Dajudaju Qlōhun ni Oluranl̄ow̄o r̄e ati Jibrilu ati aw̄on oniwa rere ninu aw̄on olugbagb̄o ododo ati aw̄on Malaika ti nw̄on j̄e oluranl̄ow̄o l̄ehin eyi.

5. O lej̄e Oluwa r̄e yio fir̄opo fun u aw̄on obirin (miran) ti w̄on dara ju yin l̄o. Ti o (Annabi) ba k̄o yin sil̄e. Aw̄on (obirin miran) ti w̄onj̄e olupa-ofin-Qlōhun-m̄q̄, aw̄on onigbagb̄o ododo, aw̄on oluteleas̄e (Qlōhun), aw̄on oluronupiwada, aw̄on oluj̄osin, aw̄on gbaw̄egbaw̄e, aw̄on adeleb̄o ati wundia.

6. ɛnyin ti ɛ gbagb̄o ni ododo, ɛ gba ara nyin l̄a ati aw̄on enia nyin nibi ina ti o j̄e pe aw̄on enia ati aw̄on okuta ni a fi nko o; aw̄on Malaika ti o ni ipa ati agbara ni olūşo r̄e, nw̄on ki yi āş̄e Qlōhun ti O ba pa fun w̄on pada, nw̄on a si m̄a mu āş̄e ti a ba pa fun w̄on ş̄e.

7. ɛnyin alaigbagb̄o, k̄o si ar̄oye kankan (awawi) fun nyin loni, dajudaju a o san ɛsan iş̄e ti ɛ ş̄e fun nyin nikan ni.

إِن نُّؤَيَّا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٦٦﴾

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ نَسَى مُسَلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ فَنِلْتِ تَبَيَّنَتْ عَيْدَاتٍ سَتَجِدْتِ تَبَيَّنَتْ وَأَبْكَرًا ﴿٦٦﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَانْعَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا نُجَزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

8. Ẹnyin ti ẹ gbagbọ ni ododo, ẹ ronupiwada lọ ba Ọlọhun ni ironupiwada ti otitọ. O le jẹ pe Oluwa nyin yio pa ẹṣṣ nyin rẹ fun nyin ki O si fi nyin wọ sinu ọgba idẹra eyiti awọn odo nṣan nisalẹ rẹ, ọjọ ti Ọlọhun kò ni dojuti Annabi ati awọn ti o gbagbọ ni ododo pẹlu rẹ. Imọlẹ wọn yio ma tan niwaju wọn ati ọwọ-ọtun wọn, nwon yio sope: Oluwa wa, ẹ imọlẹ wa ni pipe fun wa ki O si dariji wa, dajudaju Irẹ ni alagbara lori gbogbo nkan.

9. Irẹ Annabi, mã sapa le awọn alaigbagbọ ati alagabagebe lori, ki o si le kókó mọ wọn lori; ina Jahannama ni ibugbe wọn, apadasi buru ni.

10. Ọlọhun fi apejuwe lelẹ fun awọn ti kò gbagbọ, iyawo Nuha ati iyawo Lutu. Awọn mejěji wa labẹ awọn ẹrusin Wa meji ti nwon jẹ oniwa rere, (awọn obirin mejěji) nwon ẹ jamba fun (awọn ọkọ) wọn, awọn mejěji (bale wọn) kò si rọ wọn lẹrọ nkankan lẹdọ Ọlọhun, asisọ fun awọn mejěji pe: Ẹ wọ ina pẹlu awọn ti o wọ ina.

11. Ọlọhun si tun fi apejuwe lelẹ fun awọn onigbagbọ ododo nipa iyawo Firiaona nigbati o sope: Oluwa mi kọ ile kan fun mi ni ọdọ Rẹ sinu ọgba idẹra atipe ki O

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا تَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا
عَسَىٰ رِزْقُكُمْ اَنْ يَّكْتَفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُم مِّنْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مَعَهُ ۗ تُوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَيَاْمِنُ مِنْهُم
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَنْتَ اَنْتَ اَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَّاَغْفِرْ لَنَا
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٨﴾

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِيْنَ
وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّمَ
وَبِسِ الْمَصِيْرِ ﴿٩﴾

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَمْرَاتٌ نُّوحٌ
وَاَمْرَاتٌ لُّوطٌ كَاٰتَا مَحْتَّ عِبْدِيْنَ مِنْ عِبَادِنَا
صٰلِحِيْنَ فَاخَانَتَا هُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ
شَيْئًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ﴿١٠﴾

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَمْرَاتٌ
فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِنِّى لِيْ عِنْدَكَ بِئْسَا
فِي الْحَنَّةِ وَجِيْحِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِيْهِ وَجِيْحِيْ
مِنْ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١١﴾

gbami la lɔwɔ Firiiona ati işe rẹ, atipe ki O gbami la lɔwɔ awon ijo alabosi.

12. Atipe Mariyama omobirin Imrana ti o şo abe rẹ, A si fe (si ara rẹ) ninu emi Wa, o si gba lododo orọ Oluwa rẹ ati awon tira Rẹ o je okan ninu awon ti o tele aşı.

(67) Suratul - Mulki

Ni oruko Qlqhun Ajokę aieye, Aşakę qrun.

1. Ibukun ni fun Eniti ijoba wa ni owọ Rẹ, atipe On ni Alagbara lori gbogbo nkan.

2. Eniti O da iku ati wiwa laye ki O le ba dan nyin wo; ewo ninu nyin ni yio se işe rere julọ, atipe On ni Alagbara, Alaforiji.

3. On ni Eniti O da sanma meje ni ipelẹ (kan lori) ipelẹ (kan), o ko le ri ipakasọ ninu eđa (Qba) Ajokę aieye. Nitorina tun wo o yida: Nje o le ri lila pepepe kan bi?

4. Lehinna ki o tun wo yida leşemeji si, iriran na yio si pada si odọ rẹ ni ti yiye pere on na yio di alare. (kure).

5. Atipe A ti se sanma aieye ni oşo pelu awon atupa A si se (awon atupa na) ni oko asobade fun awon

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا إِتْقَانُ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ ﴿٦٧﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْأَلَكُمْ بِكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَقُورُ ﴿٢﴾

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٣﴾

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِرًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

وَلَقَدْ رَمَيْنَا الْأَسْمَاءَ الَّتِي بَايَضَ بِحَجْرِهَا رُوحُهَا وَإِنَّهَا لَرُوحٌ مُنْقَلَبٌ وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾